



اویس ضیاء کی 92 رنز کی اننگز نے بلوچستان کو کامیابی دلادی

- خیبرپختونخوا کو 6 وکٹوں سے شکست
- شعیب ملک ٹی ٹونٹی کرکٹ میں دس ہزار رنز بنانے والے پہلے پاکستانی بن گئے

راولپنڈی، 10 اکتوبر 2020ء :

بلوچستان نے اوپنر اویس ضیاء کی عمدہ بیٹنگ کی بدولت خیبرپختونخوا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر ملتان کی شکست بدلہ چکا دیا۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں بلوچستان نے 155 رنز کا ہدف 20 گیندیں قبل باآسانی 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے لیگ میچ میں خیبرپختونخوا نے بلوچستان کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی۔

ہفتے کے روز پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں اویس ضیاء نے 49 گیندوں پر 92 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 10 چوکے اور 4 چھکے شامل تھے۔ میچ میں ایک لمحہ ایسا بھی تھا جب بلوچستان کی ابتدائی 4 وکٹیں محض 68 رنز پر گر چکی تھیں، اس موقع پر اوپنر اویس ضیاء نے اکبر الرحمن کے ساتھ مل کر پانچویں وکٹ کے لیے 88 رنز کی شراکت قائم کی۔ اکبر الرحمن 24 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ شاہین آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔

اس سے قبل بلوچستان کے کپتان حارث سہیل نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ 27 رنز پر ابتدائی دو وکٹیں گرنے کے بعد خیبرپختونخوا کی ٹیم مشکلات کا شکار ہوئی تو تجربہ کار بیٹسمین شعیب ملک کریز پر پہنچے۔ انہوں نے 44 گیندوں پر 74 رنز کی اننگز کھیلی۔ اس اننگز کی خاص بات شعیب ملک کے ٹی ٹونٹی کرکٹ فارمیٹ میں دس ہزار رنز کا سنگ میل عبور کرنا تھا۔ وہ پاکستان کے پہلے اور دنیا کے تیسرے بیٹسمین ہیں جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔

شعیب ملک نے فخر زمان اور صاحبزادہ فرحان کے ساتھ بالترتیب 38 اور 69 رنز کی شراکت قائم کی۔ فخر زمان 33 اور صاحبزادہ فرحان 12 رنز بنا کر آؤٹ

ہوئے خیبرپختونخوا نے مقررہ بیس اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز بنائے بلوچستان کے عاکف جاوید نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔

مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کرنے والے ہائیں ہاتھ کے اوپنر اویس ضیاء نے کہا کہ ٹیم منیجمنٹ نے انہیں میچ کے آخر تک کریز پر رکنے کی ہدایت کی تھی ، جس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ اویس ضیاء نے مزید کہا کہ گزشتہ چند میچوں میں متاثرکن کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرنے کے باوجود ٹیم منیجمنٹ اور کپتان نے بہت حوصلہ افزائی کی جس سے اعتماد میں اضافہ ہوا۔

ہائیں ہاتھ کے اوپنر نے کہا کہ بلاشبہ شاہین شاہ آفریدی بہترین باؤلر ہیں، ان کے خلاف رنز بنانا آسان نہیں تھا مگر انہوں نے مناسب حکمت عملی کے ساتھ بیٹنگ کی جس کا ثمر بلوچستان کی جیت کی صورت میں ملا۔

پوائنٹس ٹیبل:

پوائنٹس	ہارے	جیتے	میچز	ٹیم
10	1	5	6	ناردرن
8	2	4	6	بلوچستان
8	2	4	6	خیبرپختونخوا
4	4	2	6	سنٹرل پنجاب
2	4	1	5	سندھ
2	4	1	5	سدرن پنجاب

About the National T20 Cup

- The 2020-21 season curtain-raiser under [Covid-19 protocols](#) will be held from 30 September to 18 October with the First XI matches in Multan and Rawalpindi, and Second XI matches in Lahore. Complete event and season's schedule available [here](#)
- Imad Wasim's Northern will defend the title they won in 2019-20 after defeating Balochistan in front of a packed-to-capacity Iqbal Stadium, Faisalabad. Other four sides are Central Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab
- Pakistan's very best white-ball cricketers will feature in the competition. Complete player squads are available [here](#).
- As part of the US\$200million agreement with PTV Sports and I-Media Communications Services, the event will be produced by the PCB and broadcasted live on PTV Sports. Click [here](#) to read more about the three-year agreement
- The First XI event carries a total prize money of PKR9million with the winner collecting a cheque of PKR5million and the runner-up receiving PKR2.5million.

- With one eye on the ICC T20 World Cups 2021 and 2022 the First XI matches will be held on double-league, meaning each player will get a minimum of 10 matches to impress the national selectors as well as franchise owners for the HBL Pakistan Super League 2021
- With match fee for white-ball matches set at PKR40,000, the double-league format provides a high-performing player to earn, at least, PKR400,000. This is part of the PCB's strategy and commitment to enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers
- To know and understanding potential player earnings in the 2020-21 domestic season, please click [here](#)

HELP PREVENT CORONAVIRUS



National Team Partners



Domestic Partners



- www.pcb.com.pk
- @therealpcb
- @PakistanCricketBoard
- @PakistanCricketOfficial
- @therealPCB

PCB Headquarters
 Gaddafi Stadium,
 Ferozepur Road, Lahore
 Pakistan, PO Box 54000
 T: +92 42 3571 7231-4